

7	זָכָה- اور-یوں	תַּעֲשֶׂה کر	לֶחֶם ان-کے-لیے	לֶטְהֵרֵם پاک-کرنے-کو	הִזָּה چھڑک	עֲלֵיהֶם ان-پر	מִי پانی	חֲטָאת گناہ-کا	וְהַעֲבִירוּ اور-پھرائیں	תַּעֲרֹ اُسٹرا	עַל- پر
	H3541			H2891			H4325			H8593	

כָּל- سارے	בְּשָׂרָם ان-کے-بدن	וּבְכֶסֶף اور-دھوئیں	בְּנִדְיָהֶם اپنے-کپڑے	וְהַטְהָרוּ: اور-پاک-ہوں
H3605	H1320	H3526		H2891

بو صاف پاک وہ یوں دھوؤ۔ کپڑے اپنے اور منڈواؤ بال پورے کے جسم اپنے کہ دینا حکم انہیں کر چھڑک پر ان پانی والا کرنے پاک سے گناہ لئے کے اس گے۔جائیں

8	וְלִקְחוּ اور-لیں	פָּר بیل	בֶּן- بچا	בָּקָר گائے-کا	וּמִנְחָתוֹ اور-اُس-کا-نذرانہ	סֶלֶת میدہ	בְּלוּלָה ملی-بوئی	בִּשְׁמֶן تیل-میں	וּפָר- اور-بیل	שְׁנֵי دوسرا	בֶּן- بچا
	H3947	H6499		H1241	H4503	H5560		H8081	H6499	H8145	

בָּקָר گائے-کا	תִּקַּח لے	לְחֻטָּאת: گناہ-کی-قربانی-کے-لیے
H1241	H3947	

قربانی کی گناہ وہ جن۔ بیل جوان ایک بھی خود ٹو لیں۔ میدہ بہترین گیا ملایا ساتھ کے تیل لئے کے نذر کی غلہ کی ساتھ اور جنیں بیل جوان ایک وہ پھر گا۔بو لئے کے

9	וְהִקְרַבְתָּ اور-قرب-لا	אֶת- کو	הַלְוִיִּם لاویوں	לְפָנֶי سامنے	אֹהֶל خیمے	מִזְבֵּחַ ملاقات-کے	וְהִקְהַלְתָּ اور-جمع-کر	אֶת- کو	כָּל- ساری	עֵדוּת جماعت	בְּנֵי بنی
	H7126	H0853	H3881	H6440	H0168	H4150	H6950	H0853	H3605	H5712	

יִשְׂרָאֵל:
اسرائیل-کی
[H3478](#)

کرنا۔جمع وہاں کو جماعت پوری کی اسرائیل کے کر کھڑا سامنے کے خیمے کے ملاقات کو لاویوں بعد کے اس

10	וְהִקְרַבְתָּ اور-قرب-لا	אֶת- کو	הַלְוִיִּם لاویوں	לְפָנֶי سامنے	יְהוָה یہوواہ-کے	וְסִמְכוּ اور-رکھیں	בְּנֵי- بنی	יִשְׂרָאֵל اسرائیل	אֶת- کو	יְדִיָּהֶם اپنے-ہاتھ	עַל- پر
	H7126	H0853	H3881	H6440	H3068	H5564		H3478	H0853	H3027	

הַלְוִיִּם:
لاویوں
[H3881](#)

رکھیں۔ہاتھ اپنے پر سروں کے ان اسرائیلی باقی تو ہوں کھڑے سامنے کے رب لاوی جب

11	וְהִנִּיף اور-ہلائے	אֹהֶל بارون-نے	אֶת- کو	הַלְוִיִּם لاویوں	תְּנוּפָה ہلانے-کی-قربانی	לְפָנֶי سامنے	יְהוָה یہوواہ-کے	מִמָּאת سے	בְּנֵי بنی	יִשְׂרָאֵל اسرائیل	וְהָיוּ اور-ہوں
	H0175	H0853	H3881	H8573	H6440	H3068	H0854		H3478	H1961	

לְעֵבֶד خدمت-کرنے-کو	אֶת- کی	עֲבֹדָת خدمت	יְהוָה: یہوواہ-کی
H5647	H0853	H5656	H3068

خدمت کی رب وہ تاکہ جائے کیا پیش سے حیثیت کی قربانی ہوئی بلائی سے طرف کی اسرائیلیوں انہیں کرے۔ پیش سامنے کے رب کو لاویوں بارون پھر سکیں۔کر

12	וְהַלְוִיִּם اور-لاوی	יְסֻמְכוּ رکھیں	אֶת- کو	יְדִיָּהֶם اپنے-ہاتھ	עַל- پر	רֹאשׁ سر	הַפָּרִים بیلوں-کے	וְעֵשָׂה اور-کر	אֶת- کو	הָאֶחָד ایک	חֲטָאת گناہ-کی-قربانی
	H3881	H5564	H0853	H3027		H6499			H0853	H0259	

וְאֶת- اور-کو	הָאֶחָד ایک	עֹלָה سوختنی-قربانی	לְיְהוָה یہوواہ-کے-لیے	לְכַפֵּר کفارہ-دینے-کو	עַל- پر	הַלְוִיִּם: لاویوں
H0853	H0259		H3068			H3881

تاکہ چڑھاؤ پر طور کے قربانی والی بونے بھسم کو دوسرے اور پر طور کے قربانی کی گناہ کو بیل ایک رکھیں۔ پر سروں کے بیلوں دونوں ہاتھ اپنے لای پھر جائے۔ دیا کفارہ کا لایوں

13	וְהֵעֵמְדָה	אֶת-	הַלְוִיִּם	לְפָנַי	אֶהְרֹן	וְלִפְנֵי	בְּנֵי	וְהִנֵּפְתָּ	אֹתָם	הַנּוֹפָה
	اور-کھڑا کر	کو	لاویوں	سامنے	بارون کے	اور-سامنے	اُس کے-بیٹوں	اور-بلا	انہیں	بلانے کی-قربانی
	H5975	H0853	H3881	H6440	H0175	H6440			H0853	H8573

לַיהוָה:

یہوواہ کے لیے
[H3068](#)

بے۔ کرنا پیش پر طور کے قربانی ہوئی بلائی کو رب کے کر کھڑا سامنے کے بیٹوں کے اُس اور بارون سے طریقے اِس کو لایوں

14	וְהִבְדִּילָהּ	אֶת-	הַלְוִיִּם	מִתּוֹךְ	בְּנֵי	יִשְׂרָאֵל	וְהָיוּ	לִי	הַלְוִיִּם:
	اور-جدا کر	کو	لاویوں	درمیان سے	بنی	اسرائیل کے	اور-ہوں	میرے لیے	لاوی
	H0914	H0853	H3881	H8432		H3478	H1961		H3881

گے۔ بنیں حصہ میرا وہ سے کرنے الگ سے اسرائیلیوں باقی انہیں

15	וְאַחֲרָי-	כֵּן	יִבְאוּ	הַלְוִיִּם	לְעֹבֵד	אֶת-	אֶהְלֵ	מוֹעֵד	וְשִׁהֲרַתְּ	אֹתָם
	اور-اُس کے بعد	ایسا	آئیں	لاوی	خدمت کرنے کو	کی	خیمے	ملاقات کے	اور-پاک کر	انہیں
			H0935	H3881	H5647	H0853	H0168	H4150	H2891	H0853

וְהִנֵּפְתָּ
اور-بلا
אֹתָם
انہیں
הַנּוֹפָה:
بلانے کی-قربانی
[H8573](#)
[H0853](#)

پر طور کے قربانی ہوئی بلائی کے کر صاف پاک انہیں ہیں۔ لائق کے کرنے خدمت وہ اب کیونکہ کریں، خدمت کر آ میں خیمے کے ملاقات وہ ہی بعد کے اِس بے یہ سبب کا کرنے پیش

16	כִּי	נִחְנָיִם	נִחְנָיִם	הָמָּה	לִי	מִתּוֹךְ	בְּנֵי	יִשְׂרָאֵל	תַּחַת	פְּטָרַת	כָּל-
	کیونکہ	دے ہوئے	دے ہوئے	وہ	میرے لیے	درمیان سے	بنی	اسرائیل کے	بدلے	پہلوٹھے	ہر
		H5414	H5414	H1992		H8432		H3478	H8478	H3605	

רָחֵם
رحم کے
כָּכֹר
پہلوٹھے
כָּל
ہر
מִבְּנֵי
بنی
יִשְׂרָאֵל
اسرائیل میں سے
לִקְחָתִי
لیا ہے میں نے
אֹתָם
انہیں
לִי:
اپنے لیے
[H7358](#)
[H1060](#)
[H3605](#)
[H3478](#)
[H3947](#)
[H0853](#)

بے لیا لے جگہ کی پہلوٹھوں تمام کے اسرائیلیوں انہیں نے میں ہیں۔ گئے دیئے پر طور پورے مجھے جو ہیں وہ سے میں اسرائیلیوں لای کہ

17	כִּי	לִי	כָּל-	כָּכֹר	בְּבָנֵי	יִשְׂרָאֵל	בְּאָדָם	וּבְבִהֵמָה	בַּיּוֹם	הַכֹּתִי
	کیونکہ	میرے لیے	ہر	پہلوٹھا	بنی	اسرائیل میں	آدمی میں	اور-جانور میں	دن میں	مارنے میرے
			H3605	H1060		H3478	H0120	H0929	H3117	H5221

כָּל-
ہر
כָּכֹר
پہلوٹھے
בְּאֶרֶץ
زمین میں
מִצְרַיִם
مصر کی
הַקְּדֹשִׁי
مقدس کیا میں نے
אֹתָם
انہیں
לִי:
اپنے لیے
[H3605](#)
[H1060](#)
[H0776](#)
[H4714](#)
[H6942](#)
[H0853](#)

کے اسرائیل نے میں دیا مار کو پہلوٹھوں کے مصریوں نے میں جب دن اُس کا۔ حیوان یا بو کا انسان وہ خواہ ہے، میرا پہلوٹھا ہر میں اسرائیل کیونکہ کیا۔ مقدس و مخصوص لئے اپنے کو پہلوٹھوں

18	וְאַחַח	אֶת-	הַלְוִיִּם	תַּחַת	כָּל-	כָּכֹר	בְּבָנֵי	יִשְׂרָאֵל:
	اور-لیا میں نے	کو	لاویوں	بدلے	ہر	پہلوٹھے کے	بنی	اسرائیل میں
	H3947	H0853	H3881	H8478	H3605	H1060		H3478

کر لے جگہ کی پہلوٹھوں تمام کے اسرائیلیوں کو لایوں نے میں میں سلسلے اِس

24	זאת	אשר	ל'יום	מ'ן	ח'ש	וע'רים	ש'ה	ומ'לה	יבוא	ל'בא
	יہ	جو	لاویوں-کے-لیے-بے	عمر-سے	پچیس	اور-بیس	سال	اور-اوپر	آئے	فوج-میں-شامل-ہونے-کو
	H2063		H3881		H2568	H6242	H8141	H4605	H0935	H6633

פ'א	בע'רת	א'ל	מו'ד:
فوج	خدمت-میں	خیمے	ملاقات-کے
	H5656	H0168	H4150

کریں شروع خدمت اپنی میں خیمے کے ملاقات میں عمر کی سال 25 ل'اوی

25	ומ'ן	ח'מים	ש'ה	י'שוב	מ'בא	ה'ע'רה	ול'א	יע'ד	ע'ד:
	اور-عمر-سے	پچاس	سال	واپس-آئے	فوج-سے	خدمت-کی	اور-نہ	خدمت-کرے	آگے
		H2572	H8141	H7725		H5656	H3808	H5647	H5750

جائیں-بو ریٹائر میں عمر کی سال 50 اور

26	ו'שרת	א'ת-	א'חיו	ב'א'ל	מו'ד'	ל'ש'ר	מ'ש'רת	וע'רה	ל'א
	اور-خدمت-کرے	کی	اپنے-بھائیوں	خیمے-میں	ملاقات-کے	نگاہانی-کرنے-کو	پہرے-داری	اور-خدمت	نہ
	H8334	H0853	H0251	H0168	H4150	H8104	H4931	H5656	H3808
	יע'ד	כ'ה	ת'ע'ה	ל'יום	ב'מ'ש'רתם:	פ			
	کرے	ایسا	کر	لاویوں-کے-لیے	ان-کی-ذمہ-داریوں-میں	-			
	H5647	H3602		H3881	H4931				

کی اُن مطابق کے ہدایات ان کو لاویوں تجھے سکتے۔ کر نہیں خدمت خود لیکن ہیں، سکتے کر مدد کی بھائیوں اپنے میں خیمے کے ملاقات وہ بعد کے اس ہیں۔ دینی داریاں ذمہ اپنی اپنی